

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR

Misc: Application No. _____/2023

IN

Service Appeal No. 2765 /2021

Bashir Muhammad Applicant/Appellant

Khyber Pakhtunkhwa
Service Tribunal

Diary No. 5439

Versus

Dated 19/5/2023

The Police and others Respondents

INDEX

S.No.	Description of Documents	Date	Annexs	Pages
1.	Memo of Application			1
2.	Murasila			2-3
3.	Recovery Memo			4
4.	Notification of posting of Mr. Saif Ali as Acting DSP	21.10.2020		5
5.	Inquiry Statement of Mr. Faheem	20.11.2020		6-8
6.	161 Statement of Mr. Faheem	09.11.2020		9
7.	Inquiry Statement of Tahir Khan	20.11.2020		10-11
8.	161 Statement of Tahir Khan	09.11.2020		12
9.	Court Statement of Muhammad Tahir	08.10.2022		13-15
10.	Inquiry Statement of Bahar Ali	20.11.2020		16-17
11.	Inquiry Statement Wali Rahman	20.11.2020		18-19
12.	Court Statement of Wali Rahman	12.01.2022		20-21
13.	161 Statement of Wali Rahman			22
14.	Extracts from Police Rules 1934			23-25
15.	Khyber Pakhtunkhwa Police Rules 1975			26-34

Applicant/Appellant

Through

Khaled Rahman

Advocate,

Supreme Court of Pakistan

4-B, Haroon Mansion,
Khyber Bazar, Peshawar.

Off: 091-2592458

Cell # 0345-9337312

Dated: 20 /05/2023

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR

Misc: Application No. _____/2023
IN
Service Appeal No. 2765 /2021

Bashir Muhammad Applicant/Appellant

Versus

The Police and others Respondents


Application on behalf of appellant for placing on record essential documents having bearing upon the case.

Respectfully Sheweth,

1. That the titled Service Appeal is pending before the Hon'ble Tribunal and is fixed today for hearing.
2. That the attached documents are essential to be placed on record having bearing upon the case.

It is therefore humbly prayed that on acceptance of this application, the attached documents may graciously be allowed to place on record.


Through

Applicant/Appellant

Khaled Rahman,
 ASC

Dated: 20 /05/2023

Verification

Verified that the contents of the applicant are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed from this Hon'ble Tribunal.


 Deponent

کاغذ ہونے والا ہے

ظاہر ہے غرض مباحی خداداد

وقت وقوع: 08/02/2005 وقت 23:15
رجوع وقت: 23:55

نام: ریشی انٹر چینج نام بھڑی پور ایسٹ MI 7 تانبہ شمال لگا حلالہ سٹیٹ 4 کلو میٹر انہ فوار
جم: 9D-CNSA برادگی - پیروسن (8342) گرام جیرس (4114) گرام اخون 1040
محرر HC نماز رسالتیہ 488/120

اقتب بلورانی نادر سڈی بنام جبکہ وقوع بلورانی 422 گرام جیرس 3/4 کلو میٹر انہ فوار
صلح و باوردی کا ٹیوٹا کے چٹائی سے ہر طرف سے اندر سے وقت ایک صلح خانے بلورانی
خون اطلاع دیا کہ ایک سفید رنگ کے حور کار میں پشاور کے جانب کے کافی خبیثات سے صورت
سیٹنگ پوری ہے۔ نام نادر سڈی کی پور ایسٹ پر کاروں کی چٹائی کو اور سخت لڑنے کے بعد
دیہ لید ایک سفید رنگ کے نالی حور کار پشاور کی طرف سے آیا اور دیکھا گیا حور کار حور
رہ گیا حور کار کے ڈراموں تک پہنچ کر وجود جوان العمر کے نے دریافت کیا تھا نام مسی
قہر اسحاق ولد عابد خان سڈی شہر پشاور خلیا بارہ صلح چہرہ تیار حاصل منورہ کی حاملہ
تندرستی پر کوئی خیر قانونی مشورے نہ ہوئی گاڑی کی تندرستی شروع کرنے کے بعد کار کے ڈراموں کے
خفیہ قانون سے خبیثات برآمد کر چیک کرنے پر (8) عدد سیٹنگ پیروسن (4) عدد سیٹنگ پیروسن
جیرس اور ایک عدد سیٹنگ اخون لفظ - وقوع پر ڈراموں کے (2) (1042) گرام (2) (1050) گرام (3) (1043) گرام (4) (1044) گرام (5) (1040) گرام
پیروسن کے ہر ایک سیٹنگ سے 1/1 گرام بلورانی کے نوزن کے نوزن 8342 گرام پیروسن لفظ
سہ رقم لڑنے جبکہ تیار سیٹنگ بائے (8334) گرام پیروسن کو تیار لڑنے سے 9 سرخ لڑنے کی طرح
جیرس پختہ کے (4) عدد سیٹنگ بائے کو وزن کرنے پر باقیہ ہیں سیٹنگ کے (1052) گرام
سیٹنگ کے (994) گرام (3) (1002) گرام (4) (1066) گرام لفظ لڑنے (4114) گرام صلح
لفظی - مجموعی سیٹنگ بائے میں سے 5/5 گرام حور سڈی کو تیار لڑنے سے 10/10 گرام لڑنے سے 12/12
سرخ لڑنے تیار جیرس (4) عدد سیٹنگ ورنی (4694) گرام حور سڈی لڑنے سے 14/14 گرام
جیرس کے جبکہ اخون والی سیٹنگ کو وزن لڑنے کے (1040) گرام لفظ - P.T.O

TESTED

3 - حوالہ میں سے ایک گرام اخون کو بندہ با اسلے 15 یہ شرح کے
تباہ یا پیکٹ اخون ووزنی (1539) گرام کو بندہ با اسلے کا شرح تحریری

اور عام با اسلے کو سمیت حرز کلارنگ سفارشات میں LEBIS
چینر لری NZE-140-2148
7495
934

کے حال استیفات بالہ اور حرز کارز بھی حاجی خان کو بندہ با اسلے تکلیف تحمیل
صانع چینر کی ملکیت تیار با اسلے اور ختمات کچھ نوسوں مبلغ 50 لاکھ اور لری لری
سینجاب (لاہور) کے جانا بیان کیا محمد ایفان کو بندہ با اسلے تکلیف تحمیل حاجی خان
کی گرام لری دریشن رکھ کر لری نوسوں جامع شرح - جمع با اسلے کے حال تہہ نوسوں ادخال حال
اور لری گرام لری شرحہ محمد ایفان کو بندہ با اسلے نوسوں با اسلے تکلیف تحمیل حاجی خان 422 اور
HC

تمام حالت 3 بجوئے جاتے ہیں گفت با اسلے
SHO/PS. Resul Mir
08/11/2020

8-4

ضلع مری

خود چھوٹی بندش پاپا کے

ماری

بجای شدہ نو 645 تاریخ 09/02/77
G.D.C.N.S.A 920/468

بیمہ محمد آکاف ولد عبدالخان سائن شلور قبیلہ خاں باڑہ ضلع چیمبر

بدروان نائے بھڑی تمام MI رشتگی انٹرنیٹ کو ایسا نزلہ کے روز اور ایک جڑ کار نامہ
پرائیڈ پیپر کی طرف سے اگر چھانگ کی صورت سے رو کو آخر خدمت بلڈ ڈرائیونگ سہولت
یا وجود پاپا - بلڈجے انما کر جاہر تندرستی کے لئے ہر روز کے آخر سے کوئی غیر قانونی شے یا دہریہ
گاہری کے تندرستی کے لئے پاپا کے ڈیٹا کے خفیہ خاوں سے سہولت سے خستہ ہوا ہر
جیک کے لئے 8 عدد سیکٹس جو ہر پاپا میں 4 عدد سیکٹس جو ہر چیمبر میں اور ایک عدد
سیکٹس جو ہر ایسٹن ہوا ہر پاپا میں جو ہر پاپا میں 4 عدد سیکٹس جو ہر چیمبر میں اور ایک عدد
پاپا میں کے سیکٹس 1042 گرام 2 1050 گرام 3 1043 گرام 4 1044 گرام 5

1840 گرام 6 1640 گرام 7 1043 گرام 8 1040 گرام یعنی کل 8342 گرام پاپا میں
سرخ رنگ کے جڈ تباہ سیکٹس پاپا کے 8334 گرام پاپا میں جو ہر پاپا میں 1 تا 8
چیمبر میں 4 عدد سیکٹس پاپا کے جو ہر رنگ کے بالترتیب سیکٹس 9 سرخ رنگ کے ایک
3 1002 گرام 4 1066 گرام یعنی کل 4114 گرام چیمبر میں لنگی - چھوٹے سیکٹس پاپا کے سے 5 گرام
جو ہر رنگ کے جو ہر چیمبر میں ایک ایک پاپا میں پاپا کے پاپا کے پاپا کے پاپا کے پاپا کے پاپا کے پاپا کے
سیکٹس پاپا کے کل 4094 گرام جو ہر پاپا میں پاپا کے پاپا کے پاپا کے پاپا کے پاپا کے پاپا کے پاپا کے
کل 1840 گرام لنگی - چھوٹے میں سے ایک 1 گرام آخرون ڈیٹا کے پاپا کے پاپا کے پاپا کے پاپا کے پاپا کے
تباہ سیکٹس آخون جو ہر پاپا میں پاپا کے پاپا کے پاپا کے پاپا کے پاپا کے پاپا کے پاپا کے
ایک B.R. جو ہر پاپا میں پاپا کے پاپا کے پاپا کے پاپا کے پاپا کے پاپا کے پاپا کے
سمیت جو ہر پاپا میں پاپا کے پاپا کے پاپا کے پاپا کے پاپا کے پاپا کے پاپا کے

LEB-13 جس میں 74.95 گرام پاپا کے پاپا کے پاپا کے پاپا کے پاپا کے پاپا کے
NZE-140-2148934
محمد طارق خان 422/22
08-11-020



GOVERNMENT OF KHYBER PAKHTUNKHWA,
OFFICE OF THE REGIONAL POLICE OFFICER,
MARDAN

Phone No. 0937-9230113, Fax: No.0937-9230115.

Email. esrpmardan@gmail.com

Dated Mardan, October 21, 2020.

NOTIFICATION.

No. RPO Office/ES/Transfer/Posting/ 6486. In exercise of powers delegated to the undersigned vide CPO Notification No. CPO/E-I/Delegation of Powers/ 698 dated 09.04.2020, Mr. Saif Ali Inspector (BS-16) awaiting posting Region Office, Mardan; is hereby transferred/posted as Acting DSP/Headquarter, Nowshera in his own pay and scale with immediate effect and till further order:-

(SHER AKBAR) PSP, S.St,
Regional Police Officer,
Mardan.

CC.

1. Additional Inspector General of Police, HQrs Khyber Pakhtunkhwa.
2. Deputy Inspector General of Police, HQrs Khyber Pakhtunkhwa.
3. Deputy Inspector General of Police, Operations Khyber Pakhtunkhwa.
4. Principal Staff Officer to the Provincial Police Officer, Khyber Pakhtunkhwa.
5. All District Police Officers of Mardan Region.
6. All SsP Investigation of Mardan Region.
7. AIG Establishment CPO Peshawar.
8. Registrar, Secret, CPO Peshawar.
9. Superintendent E-I CPO Peshawar.
10. District Accounts Officer, Nowshera.

(*****)


SHER AKBAR

بیان ارڈان چشم خان 03/11/14
تعمیرہ ناگہ بندی پوائنٹ 17-1
وٹسپی انٹر چینج

Deputy Super of Police
HQR: NSR
26-11-2021

سلسلہ انکوائری میں تحریری بیان دینا چوں کہ صفحہ 11/8 کو میری

ٹائپر HC اور کشینیل بہار علی 468 سی ڈیوٹی عطا بنی رجسٹر نام 06

سے دن 12:00 بجے تک لگی چھوٹی تھی ڈیوٹی پر میں اور کشینیل بہار علی 468

تو ہوتے تھے کہ اس دوران ایک مختصر خاص میرے پاس آیا اور بتایا کہ میں آپ

پر ایک گاڑی نوٹر کارمنٹیا سے بھرا ہوا پلٹر ناچا ہوا تھا لیکن میرا

خاص خیال رکھا جائے اور آپ میرے صفحے کاٹم ڈھردار ہوئے اور موقع

پر مجھے میرا صفحہ دوئے کے چونکہ اس سے پہلے ASP صاحب اور SHO صاحب

نے ہمیں بار بار بتایا کہ وفار سے کام لیا جائے اور کچھ بڑا پلانٹس لیا جائے

افسراؤں کے بیویات کو مد نظر رکھتے ہوئے وفار سے کو راہی کیا اور چھوٹا پلانٹس

تعمیر ڈیوٹی میں مصروف تھے کہ اس دوران وفار میرے پاس واپس آیا اور

مجھ کو پلٹر سفید ناچ نوٹر کارمنٹری 2495 ماڈل 2013 بیان کیا

اور بتایا کہ کچھ دیر میں یہ گاڑی میری مقدار میں منشیات پنجاب سمٹل کر لیا

تھوڑی دیر بعد ہی گاڑی ناگہ بندی پہنچی تو میں نے گاڑی کو رکھو کر سائید پر

لے گیا اور ڈرائیور کو گاڑی سے اٹا کر بہار علی 468 کے حوالہ کیا میں نے

گاڑی خاصی نکال کر پاس رکھی گاڑی کی تلوٹھی شروع کی معلوم ہوا کہ گاڑی میں

صفیہ خانے کے چونکہ ٹائپر HC بیمار تھا مگر میں سوچا ہوا تھا میں خود جا کر ٹائپر

کھینچا تھا اور ساتھ ڈاکٹر گاڑی کے بارے میں آگاہ کیا اور وفار سے بارے میں

بھی آگاہ کیا جب ٹائپر HC نے چیک کر کے بتایا کہ ورقسی پہ صفیہ خانے میں جو

منشیات وغیرہ لکھے استعمال ہوتے ہیں ٹائپر نے SHO صاحب کو اطلاع دی اور

موقع پر بلوایا چشم نے SHO صاحب کے ملکر گاڑی کے صفیہ خانوں سے منشیات

کے 29 پیکیٹس برآورد کئے سارے پیکیٹ SHO صاحب نے مگرے میں رکھو کر ASP

صاحب کو موقع پر بلوایا وفار اور منشیات کے بارے میں آگاہ کیا

ATTESTED

7, 8

ASP صاحب اور SHO صاحب دونوں نے انفارمیشن 9 پبلیک اڈا لیا
SHO صاحب نے خود انفارمیشن کو دیکھا ہے جو کہ مگرے سے باہر سائبر
پراکٹر اٹھا ASP صاحب نے سارے پبلیک سے تصویب بھی لیا ہے۔ اور پورے
میں چلا گیا۔ SHO صاحب نے ملزم گاڑی و جگہ حال حضور منشیات
ساتھ جھانک لائے یہی صبراً بیان ہے جو کہ حقیقت پر

بنی ہے۔

Fahamkhan

20-11-2020

ATTESTED

س 1 کیا آپ کو شک ہے - صرف 11/2022 و جمع 9 Dec 2022

میں موٹر کارڈ 7495 کاڈل سے آرٹھم اگلی ٹریٹ سفید سے برادر شدہ
نشانی کے متعلق معلومات میں باپس ہے

ج۔ وائے کے وقت میں سے کسٹل ہمارے 468 نام بندی یونائیٹڈ اسٹیل اسٹریٹ

پر موجود تھا۔ اور اچارج ظاہر ہو گا شدید بخار تھا اور اچھے لکڑہ میں خواہدہ
تھا۔ دوران ٹیوٹی انفارمیشن ملی۔ کے موٹر کارڈ 7495 میں بھاری

کو بیج لاکرٹ کر کے دسی دوران موٹر کارڈ 7495 میں باپس کسٹل ہمارے 468
سے موٹر کارڈ کوڈا۔ جسکے تفصیل میں نے اپنے بیان پیش کردہ میں موٹر

کارڈ میں موٹر کارڈ کسٹل ہمارے 468 میں نے اپنے بیان پیش کردہ میں موٹر
سے صفیم خانے نے پورے میں جسے ضرور نشانی بند میں درج

کو میرا ہی کسٹل کو قابو کرنے کی ہدایات کر کے سب سے فوراً اچارج
ظاہر ہو گیا۔ وہ بھی فوراً آکر موٹر کارڈ کسٹل ہمارے 468

کر کے جس نے بھی ملدیا۔ کے واقعہ کارڈ میں صفیم خانے میں
انہوں نے توری طور پر 540 کو پورے میں کسٹل ہمارے 468

کر کے جا۔ 540 کے توری میں تھا۔ نڈر یونائیٹڈ اسٹیل ہمارے 468
کوئے اسٹریٹ فریڈا آکر کسٹل ہمارے 468 میں لانا کارڈ جا۔ 540 میں

29 بہت نشانی برآمد ہونے لگا۔ اسکے بعد جا۔ 540 نے فالو
کارڈ کی تیکے موٹر کارڈ سے ملزم، برادر شدہ نشانی تھا رواج کر کے

FIR اندراج شدہ میں جینا مندر ظاہر کی گئی ہے حقیقت کے برعکس
میں نے فرد دیکھا ہے وہ بھی دستک میں کی گئی تھی

س 2 کیا جا۔ 540 کے مطابق FIR آگے ملزم، ماہدہ باپس کے فرام موقع پر
حوالہ کی گئی ہے

ج۔ میں 540 نے موٹر کارڈ سے ملزم، نشانی خود تھا ریپورٹ کے لئے میں
کارڈ باپس کے وہاں دربارتہ تھے میں جس سے میں لاعلم ہوں

س 3 کیا آپ کے موجودگی میں جا۔ 540، 540، 540 کے انکار سے کو نشانی
دے میں

ج۔ میرے موجودگی میں 540 نے نو ویکٹ نشانی علیحدہ میرے انکار سے

Attest by

ATTESTED

۹/۱۱/۲۰۲۰

گواہ محمد عقیل مٹس رقم ۵۳ ۲۵۰ اسٹیبلشمنٹ برادرانہت پولیس میان کراچی

میں دم کا پر ۱۱۱۱ سینٹر لڑکان ۵۱۱۰ اسٹیبلشمنٹ برادرانہت پولیس میان کراچی

انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ برادرانہت پولیس میان کراچی ایک سٹیبلشمنٹ برادرانہت پولیس میان کراچی

۱۱۱۱ گرام گھوٹانہ کھڑا کراچی ۱۱۱۱ گرام گھوٹانہ کھڑا کراچی

کریکٹ سٹیبلشمنٹ برادرانہت پولیس میان کراچی ایک سٹیبلشمنٹ برادرانہت پولیس میان کراچی

کریکٹ سٹیبلشمنٹ برادرانہت پولیس میان کراچی ایک سٹیبلشمنٹ برادرانہت پولیس میان کراچی

کریکٹ سٹیبلشمنٹ برادرانہت پولیس میان کراچی ایک سٹیبلشمنٹ برادرانہت پولیس میان کراچی

کریکٹ سٹیبلشمنٹ برادرانہت پولیس میان کراچی ایک سٹیبلشمنٹ برادرانہت پولیس میان کراچی

کریکٹ سٹیبلشمنٹ برادرانہت پولیس میان کراچی ایک سٹیبلشمنٹ برادرانہت پولیس میان کراچی

کریکٹ سٹیبلشمنٹ برادرانہت پولیس میان کراچی ایک سٹیبلشمنٹ برادرانہت پولیس میان کراچی

کریکٹ سٹیبلشمنٹ برادرانہت پولیس میان کراچی ایک سٹیبلشمنٹ برادرانہت پولیس میان کراچی

کریکٹ سٹیبلشمنٹ برادرانہت پولیس میان کراچی ایک سٹیبلشمنٹ برادرانہت پولیس میان کراچی

اسٹیبلشمنٹ برادرانہت پولیس میان کراچی ایک سٹیبلشمنٹ برادرانہت پولیس میان کراچی

ATTESTED

سان اراں طائر 442
260
مقصد نامہ بندی شکی مشورہ

سلسلہ رنگواری میں تقریری بیان لکھ دیا ہوں کہ مورخہ 02/11/20 کو
سیری قسم 442 اور کنٹینر 468 کی ڈروٹی بطابق ڈروٹی جلد
ڈروٹی اول لگی ہوئی تھی۔ چونکہ جے سخت بخار تھا لہذا میں قسم 442 سے
کہا کہ بخار کی وجہ سے میں ڈروٹی نہیں کر سکتا اسلئے میں وردی میں
بہتتا اور سادہ کپڑوں میں جیک ریست کسٹاؤ قریب کمرے میں سو جا
اگر کوئی امیر آپ سے پوچھے کہ دو بندے کیو کھڑے ہو تو بتانا کہ طائر
کو بخار ہے اور اس ساٹھ والے کمرے میں سوئے ہوئے میں۔ اگر امیر جے
طلب کرنا چاہے تو جے جگا دینا۔ لہذا میں سو جا ہوا تھا کہ قسم 442
نے جے جگایا کہ تم باہر آ جاؤ۔ میں نے ایک گاڑی روک رکھی ہے۔ جے
اسمیں منشیات سیخاں سٹولنگ کی اطلاع ہے اور اس میں حنفیہ خانہ
میں آ کر اچھلے ڈھکی کیمرف سے گاڑی کو دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ
اسمیں حنفیہ خانے میں 540 صلب کو فوری اطلاع دیکر 540 صلب
موقع پر پہنچ گئے۔ ہم نے 540 صلب کسٹاؤ منکر حنفیہ خانے کھول
تقریباً 29 بیگٹ منشیات برآمد ہوئے 540 صلب ASP کو کال
موقع پر بلا لیا ASP صلب کی جگہ پہنچ گئے۔ ASP صلب سے
سے باتیں (پوچھ گئے) کی اور کمرے میں سو جا بل سے منشیات سے
بھی لی کہ یہ میں DP0 صلب کو send کرتا ہوں اور اسے بتانا
کہ 540 صلب سے باتیں گئے اور ASP صلب سے اطلاع ہے۔

سان اراں حقیقت پر مبنی ہے
M. Rahim
Dated - 20-11-2020

ATTESTED

نہیں کیا گیا۔ نے مطابق FIR ملے۔ مورخہ 9/11/2020 جمع 9 DEC 2020 کا سال
واقعہ، حادثہ و ارسال ہائے اور مندرجہ معروضہ بندش ٹکٹ کے لئے ہے۔

ج۔ میں موٹر کار نمبر 7495 AEB کے ایک ٹرک سٹیڈ سے نشانیات کے برآمدگی
میں موجودگی، SHC، ASI، کا پتہ کر جاہ۔ SHC کے مندرجہ اور حادثہ
میں موٹر کار کے لئے نوڈ ریٹائرمنٹ کے لئے ہم اپنے ڈیوٹی گوانٹینسٹ پر حضور کے

س۔ یہ ایک موٹر کار نمبر 7495 AEB کے صفحہ خانوں سے کٹے ہوئے نشانیات
برآمد ہو گئے ہیں۔

ج۔ مجموعی طور پر کل 29 ایکٹ نشانیات رقم پورٹن، جس میں آئینوں
برآمد ہو گئے ہیں۔

ن۔ اگرچہ۔ حادثہ ایکٹ نشانیات کے متعلق اور FIR اندراج شدہ میں تضاد
موجود نشانیات کے متعلق آپ کو معلومات ہے۔

ج۔ میں۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہئے کہ کیا حادثہ پورٹن سے
پتیل ہائے اگر برآمد شدہ نشانیات سے متعلقہ حادثہ سے کسی دیگر قسمی کے
متعلق میں جو اسٹاف سے معلومات کیے ہوئے ہوں، FIR اندراج
میں آئیے ایکٹ پورٹن، ایک ایکٹ جس میں ایک ایکٹ آئینوں
کا وضاحت اندراج شدہ ہے۔ دیگر بارگاہوں یا نشانیات کے
متعلق لا معلوم ہوں۔

س۔ (9) آپ کے دفتر برآمد شدہ نشانیات بارگاہوں میں جاہ SHC کے بندش
کے بارگاہوں۔

ج۔ میرے علم موجودگی میں جاہ SHC کے بارگاہوں کے بارگاہوں کے لئے میں

Attested
Deputy Supt of Police
HQR. NSR
20-11-2020

ATTESTED

PW-04
08.10.2022

Statement of Muhammad Tahir, HC/442, PS-Risalpur, on
oath:



Stated that I am marginal witness to the recovery memo, already Ex.PW-3/1 vide which the complainant/SHO Bashir Muhammad Khan recovered and took into possession 08 packets of heroin, 04 packets of charas and 01 packet of opium from the secret cavities made in the diggi of GLI Motor bearing No. LEB-1307495, driven by the accused facing trial Muhammad Ishaq at the time of occurrence. On weightment the 08 packets of heroin came out as (1) 1042 gram (2) 1050 gram (3) 1043 gram (4) 1044 gram (5) 1040 gram (6) 1040 gram (7) 1043 gram and (8) 1040 gram, total 8342 grams. The complainant separated 1/1 gram heroin as samples for FSL and sealed into parcels No.1 to 8, while the remaining heroin 8334 grams were sealed into parcel No.9, already Ex.P-1, while the 04-packets of charas on weightment came out as (1) 1052-gram (2) 994-gram (3) 1002-gram and (4) 1066-gram, total 4114 grams. The complainant separated 5/5 gram as samples for FSL and sealed into parcels No.10 to 13, while the remaining 4094 grams charas were sealed into parcel No.14, which is already Ex.P-2, while the 01-packet of opium on its weightment came out 1040 gram. The complainant also separated 01-gram opium as sample for FSL and sealed into parcel No.15, while the remaining opium 1039 gram was sealed into parcel No.16, which is already Ex.P-3. All the parcels were affixed 3/3 seal monograms of BR while 1/1 monogram was kept inside each parcel. The complainant took into possession all the recovered contraband alongwith motorcar GLI bearing No.LEB-13-7495 white in colour through recovery memo, in my presence, as well as in presence of co marginal witness Fahim HC. ~~I also took the murasila alongwith relevant documents, case property and accused to the PS alongwith Fahim HC, for registration of the case.~~ I have also been examined by the

ATTESTED

IO, u/s 161 Cr.P.C. Today I have seen the above mentioned documents which are correct and correctly bears my signature.

XX..... It is correct that my signature in my CNIC is different from signature on recovery memo. It is incorrect to suggest that neither I was present on spot nor with the complainant and someone else has signed the recovery memo on my behalf. It is correct that in murasila, in recovery memo and in my statement recorded u/s 161 Cr.P.C, my belt number has been mentioned as 422. Witness volunteered that my belt is No.442. It is incorrect to suggest that neither I was neither present with the complainant nor he was aware of my belt number that is why on the basis of hearsay he mentioned my belt number as 422 instead of 442. I have not noticed my belt number in recovery memo, in murasila as well as in my statement recorded u/s 161 Cr.P.C, on the spot. It is incorrect to suggest that actually neither the above mentioned documents were prepared in my presence, nor I perused the same otherwise I would have correctly mentioned my correct belt number. It is correct that no DD regarding my departure from the PS is available on the case file. Witness volunteered that we were permanently deputed at Rāshakai Interchange Check Post. It is correct that the DD showing our arrival to the PS and handing over of the Murasila, is not available on file. I do not remember the time when my statement u/s 161 Cr.P.C was recorded. ~~At~~ ~~g~~ over ~~at~~ ~~0050~~ hours. I do not remember that whether at 0050 hours SHO and IO were available on the spot or not. I do not remember the exact time for which the SHO and the IO remained on the spot. The IO noticed the gunners of the SHO, who had come with him from Mardan. Witness volunteered that whenever SHO is transferred from one district to another district he usually brings his gunners from the district wherefrom he is transferred. It is correct that SHO Bashir Khan was the resident of Mardan and had transferred from District Mardan to PS-Risalpur. It is incorrect to suggest that neither SHO nor I was present on spot, SHO was on leave


ATTESTED

-15-

and later on came from Mardan and registered the instant false case against the accused facing trial. (The whole suggestion is incorrect). I do not remember the number of secret cavities in motorcar. I do not remember whether secret cavities were of the same size or not. I cannot say that from how many cavities how much contraband were recovered. I do not remember that whether packets were wrapped in yellow solution tape or otherwise. ~~I do not know and whether any inquiry was conducted in the instant case or not.~~ I do not remember as to whether we were removed from the said check post after the inquiry by the DPO or not. I do not remember the shape of opium inside the packets. The charas were in the shape of slab however I do not remember the number slabs inside each packet. No driving license, registration of motorcar, cash amount and mobile was recovered from the accused. I myself drove the motorcar taken into possession in the instant case from spot to the PS. The IO did not record the statements of the gunners of the SHO. The gunners of the SHO were present on the spot with us, but even then the IO did not record their statements in my presence. I do not remember as to whether I have signed the register No.19 or not. I do not remember that whether serial numbers and weights were scribed on packets or not. It is incorrect to suggest that accused was neither arrested in my presence nor from the said motorcar. It is further incorrect to suggest that neither any recovery of contraband has either been effected in my presence, or from motorcar, nor I was present on spot. It is further incorrect to suggest that alleged recovery is planted one that is why DPO conducted inquiry against us.

R.O & A.C

Dated: 08.10.2022



Muhammad Fiaz,
Examining Officer Additional Sessions Judge/JSC
Branch 235, Nowshera Model Criminal Trial Court
Nowshera

ATTESTED

Deputy Spill of Police
HQR. NSR
20-11-2020

مقتدرہ مالہ نندری رشتہ انڈسٹری

سلسلہ انٹرویو میں ٹیگ نندری بیان لکھ چکی ہیں کہ مورسہ 8/11/2020 کو میری فصیح HC طاہر
 کہ درپہلی اول بھی جو کہ طاہر اسٹارٹو کار تھا اس لیے وہ کوئی سے بنا تھا بلکہ جیک لوپس
 - سب سے قریب والا کمرے میں گویا اور فصیح H کر گیا کہ میں بیجاریوں آ رہی تھی اور مجھے ملے
 - میں تو مجھے صوفی گاڑی میں اور فصیح H کوئی کر رہے تھے کہ ایک لڑکا فصیح H کے پاس
 آیا، اس نے کہ اور چلا گیا دریافت پر فصیح اسٹارٹ سے بھی بنا یا کہ یہ انفارمیشن ہوئی
 گاڑی بیکر کے آگے سے چوہہ ASP صاحب اور SHO صاحب بار بار دریافت کر رہے
 تھے کہ عقبرت سرور سے کوئی بڑا بیگٹرس مرد اور ASP صاحب نے طاہر HC اور جنرل
 کو ملایا بیگٹرس پر *Explication* دے دیے ہیں نیز اس میں کچھ لوگوں سے
 فرم لے کر دیکھے ہیں انشاء اللہ کیونکہ مجھ پر آگے اس پر حاشے گا کچھ دیر بعد وہ لنگر
 دوبارہ آیا اور فصیح اسٹارٹ سے بات کی اور پھر چلا گیا اور فصیح اسٹارٹ سے بھی بتایا کہ ایک
 گاڑی سوڈر کار نمبری $\frac{LEB}{7493}$ بنگلہ سید صاحبہ بیوان والا ہے اس میں ایک لنگر
 بیگٹرس اور بیگٹرس کر رہا ہے اس گاڑی کا دو نمبر ہے - ہزار کا سو کا کچھ دیر بعد
 گاڑی بیچ گیا فصیح اسٹارٹ خود اسٹارٹ لے کرے گاڑی کو سائٹر پر لے گیا میں رائفل ما
 میں بکری کے کھے فاصلے پر الٹ کھڑا تھا فصیح اسٹارٹ درپہلی آواز سے مجھے آواز دے کر ڈرا
 سرے ہوئے یہ فصیح اسٹارٹ گاڑی کی جا بیاں نکال کر انہی پاس رکھی گاڑی کو لایا اسٹی
 سی اور مجھ کو بتایا کہ اس میں صفید خانہ میں غ اس بند کا مہال رکھوں میں طاہر HC کو پتہ آ
 طاہر کو پتہ لگا سکا کہ اس نے بھی لکھی جیک کسی نو اس نے بیان واقع اس میں لکھی میں
 صفید خانہ میں اٹھوں، SHO صاحب کو اطلاع دی SHO پہلی آگے SHO صاحب کو
 پیرس اپنے نوٹس پر چلا گیا کچھ دیر بعد ASP صاحب بھی آگیا تاہم مجھے کچھ علم میں تھا
 SHO صاحب نے جان بوجھ کر لکھی اور لکھی کہی سا تو گئے کیا ہو کر مجھے اپنے نوٹس سے دھماکا دیا پھر

TESTE

Date 20/11/2020

بہال ازان بہار علی

سابقہ پتہ اور تاریخ 645 جگہ 11/2 و ص 645A اور 645B کے مطابق
معلوم ہے کہ یہ ہیں:

جہاں روضہ میں سے مضمون 13 کے تحت دیئے گئے ہیں اور ان کے ساتھ
موجود تھا۔ جس کے مطابق جوچ صدر بنائے گئے تھے اور ان کے ساتھ
دوسرے مضمون 14 نے جسے ملوایا اور یہاں کی کٹرنگ کارڈ 7495
انٹار مشین علی ایچ ایم ایچ میں کافی مقدار نشیات سمگل ہونے سے کہنا
میں سے مضمون 14 کی کو سیکورس کھرا تھا۔ تاکہ سوشل کارڈ
نہ جائے۔ اس دوران سوشل کارڈ پر آکر مضمون 14 نے کہا ہے
سے رکھنا اور کارڈ سے چابی نکال کر ڈرائیور کو سوشل کارڈ
میں سے نکالنے کی۔ اس نے ڈرائیور محمد اسحاق کو جانور میں رکھ کر مضمون 14
ڈرائیور کی کھلاشی ہے۔ مذکورہ نے سوشل کارڈ کے خفیہ خانوں میں
کاڈر کی۔ مگر یہاں سے سوشل کارڈ کے خفیہ خانوں کو سوشل کارڈ
وہ بھی اگر کارڈ سوشل کارڈ میں نشیات کی تلاش کرے جس نے ہم
کے خفیہ خانوں میں نشیات کی پوری سوشل کارڈ اور طاب 14 نے پورا
S.H.O کو اطلاع دیکر S.H.O کو سوشل کارڈ کے خفیہ خانوں میں
کاڈر کے کل 29 سیکٹ نشیات کے پورا سوشل کارڈ کے خفیہ خانوں
میں سے سوشل کارڈ کے خفیہ خانوں میں رکھا۔ پھر وہ سوشل کارڈ کے
AsP سے بھی کھلیا۔ پھر اس کے بعد سوشل کارڈ کے نشیات کے
نے سوشل کارڈ کے سوشل کارڈ کے خفیہ خانوں کو سوشل کارڈ کے
رہے ساتھ لے کر سوشل کارڈ کے خفیہ خانوں کو سوشل کارڈ کے

Attested

Supd of Police
QR. NSR

ATTESTED

بیان ازان وی رعایا 54/HC قمر تقاں رالپور

18

(17)

نے بیان کیا کہ میں بحیثیت قمر تقاں رالپور میں صرف 9/5 سے تعینات ہوں۔ 8/11/2020
 کو جو عالم مد 7 روزنامہ 8/11/2020 دفعہ سب سب ڈپٹی ڈائریکٹر اور گورنر سہا قبا اور
 جوالح مد 8 روزنامہ 9/11/2020 گورنر سے والوں آکر 540 صاحب نے مقدمہ 456
 9/5/2020 جیم 9DCNSA تقاں رالپور کے بارے میں بتایا 3 الاٹرم میٹنگس ہارسل نمبر 9
 8334 گرام میٹنگ ہارسل نمبر 10 تا 13 5/5 گرام میٹنگ ہارسل نمبر 14 4094 گرام
 میٹنگ ہارسل نمبر 15 گرام میٹنگ ہارسل نمبر 16 1039 گرام میٹنگ ہارسل نمبر 17
 میٹنگ ہارسل نمبر 18 اور 540 صاحب نے دستخط کیے تھے۔ قمر تقاں رالپور کو جو
 لڑنے سے کی گئیں جلد نمبر 19 کے سلسلہ نمبر 481 پر ذبح کر کے بدستور ہارسل نمبر 19
 16 اکتوبر 2020 تقاں رالپور کو جوالح کے جو مقدمہ کے ساتھ اکتوبر 2020 نے ہارسل
 کے حاکم سید شمس کو نے مقدمہ ہال مقدمہ تقاں رالپور کے ساتھ مذکورہ میں قمر کو جوالح
 کر کے جس پر جوڈیشل میجرٹ صاحب نوٹس کے دستخط اور میٹنگ کیے تھے محفوظ ہال خانہ کیے
 ہارسل نمبر 8، میٹنگ نمبر 10 تا 13 میٹنگ ہارسل نمبر 15 میٹنگ ہارسل نمبر 16 FSL جوالح اکتوبر 2020
 صرف 16/11/2020 کو بدستور کئی عامر 1230 FSL ہارسل نمبر 17 سے 18 میں قمر کو ہارسل نمبر
 جیسے تھے۔ جوالح شریک نہیں ہوئے۔ ہارسل نمبر 17 کے بعد اور عدالت میں مقدمہ ہال مقدمہ
 ہارسل نمبر 9، 14، 16 کیے تھے۔ گرام میٹنگ میں اطلاع میں تھی عدالت ہارسل، واپس ہارسل نمبر
 یہ بیان ہے

Attested
 Deputy Commissioner
 HQR, NSR
 20-11-2020

دعا نمبر 54/HC
 قمر تقاں رالپور

ATTESTED

انٹرنیٹ ایسی آرٹ میں موجود ہے کے مقدمہ نمبر 645 ص 11/20 و مع ACNSA
ریالیو کا اندراج نواب علی نے کی ہے


ج۔ ہیں ایسی آرٹ میں حسب راجز ASP ماہ 23 صفحہ 23 گڈے مرنے

کے آپ کو مقدمہ کسی وقت اور کس قسم حوالہ کیا ہے

مجموعہ ص 11/20 میں ڈیوٹی کئے گئے محمد سے آر کر جواب SHO ماہ 6
مجھے پارٹیل 6 اپنا 16 مختلف قسم حوالہ کئے گئے ہیں نے ججٹ محمد اپنی
زمہ طری کر رٹس نمبر 19 میں مطابق FIR دیکھیں کئے گئے ہیں حوالہ شدہ
پارٹیلوں پر جواب SHO ماہ کا دیکھو اور حوالہ ایسی B.R کسٹ ہے ہیں

تفصیلی آفسر آفسر زمین اد کو مقدمہ کے چھراہ میں کرنے کئے گئے پارٹیل ہائے مرنے

5، 14، 16، حوالہ کئے اور چھراہ پارٹیل کئے گئے 15/20 پر حوالہ دیا گیا 7/21
میری شہر 13/13 ایسا اور معرفت عامر 12/30 جموں گئے گئے۔ جسٹس آفسر میں آگئے
بعد پیشی مقدمہ پارٹیل کے حوالہ سے 19 میں لائے گئے ہیں پر مقدمہ محمد شریف
نے بھی میرا دیکھو کسٹ کے ساتھ ساتھ محفوظ رکھنا ہے رکھ کر حوالہ
11/20 درجناب SHO ماہ 13/13 شہر شریف فرما کر پارٹیل ہائے حوالہ کئے
گئے ہیں جواب میں میرے ساتھ محفوظ رکھنا ہے حوالہ محمد شریف آفسر
صداقت نے مجھے حوالہ کئے گئے

Attested


20-11-20

ATTESTED


PW-01
12.01.2022

Statement of Wafi ur Rehman, MHC, presently posted at Police Post Soria Khel, on oath:

Stated that during the days of occurrence I was posted as MHC at Police Station Risalpur. On 09.11.2020, I received parcels No. 1 to 16, alongwith GLI Motorcar No.7495/LEB-13 white colour and accused facing trial, sent by complainant Bashir Khan SHO through Tahir 442/HC and Fahim 03/HC. I made relevant entries in register No.19, copy of which is Ex.PW-1/1. I kept the parcels in the Malkhana of the PS and parked the motorcar in the PS, while locked the accused in the lockup of the PS. Then on 10.11.2020, I handed over parcel No.1 to 8 (containing 1/1 gram heroin), parcels No. 10 to 13 (containing 5/5 gram charas) and parcel No. 15 (containing 01 gram opium) to constable Aamir No. 1230 for carrying the same to the FSL, vide receipt No. 739/21 and after doing the needful he returned the same back and handed over to me, which is Ex.PW-1/2. My statement was also recorded u/s 161 Cr.P.C by the IO, twice.

R
12/11

XX..... It is correct that in the relevant column of register No.19 (Ex.PW-1/1), no entry of motorcar mentioned above has been mentioned. It is incorrect to suggest that neither any contraband and motorcar were either brought to the PS or handed over to me that's why same had not been mentioned in registered no. 19. On 09.11.2020, parcels No.1 to 16 were handed over to me at about 08:00 AM, but I do not remember that who handed over to me the same. Accused facing trial was locked in the lockup of the PS by Tahir IIC, but I do not remember the exact time. On the relevant day each officials of the PS made entries in the DD. I have not made any entry about the accused and case property in Daily Diary of the PS. It is correct that after registration of FIR, DPO Nowshera visited the PS and checked the parcels of the instant case but I do not remember the exact date and time of arrival of the DPO to the PS. After the visit of DPO. Nowshera to our police


State Vs Muhammad Ishaq FIR # 645 dated 09.11.2020 U/S 9-D KP CNSA Police Station Risalpur

ATTESTED
09 SEP 2022
Examiner Copying Agency
Branch D.S.J. Nowshera


station then SHO and OII of PS Risalpur were suspended and closed to Police Line, Nowshera. On 09.11.2020, I handed over parcels of remaining case property to IO Akbar Rehman for production before the court alongwith the accused facing trial and then returned to me on the same day, but I do not remember the exact time. It is incorrect to suggest that nothing was either recovered from the accused facing trial or handed over to me. It is further incorrect to suggest that alleged contrabands were planted against the accused facing trial that's why parcels of maize-flour and other materials were handed over to me after un-explained delay of 08 hours. It is further incorrect to suggest that when DPO, Nowshera checked the parcels of the instant case and could not find any contraband then samples of heroin, charas and opium were procured, planted and sent to FSL just to prove false and fabricated case. It is further incorrect to suggest that DPO, Nowshera really found no contraband in parcels that's why SHO and OII were suspended.

R.O & A.C

Dated: 12.01.2022


Tufail Ahmad,
Additional Sessions Judge/JSC
Model Criminal Trial Court
Nowshera

12/1



دوم (اندرونی)


حصہ دوم (اندرونی)

رپورٹ ضمنی

(۳) دلی رهنم ۱۴۰۷ جہانم رہنما کے ساتھ بہتر باہر سے پتہ کیا گیا۔ (مکمل پتہ)
 ۱۴۰۷ جہانم رہنما کے ساتھ بہتر باہر سے پتہ کیا گیا۔ (مکمل پتہ)
 اور مندرجہ ذیل کے ساتھ ساتھ جہانم رہنما کے ساتھ بہتر باہر سے پتہ کیا گیا۔ (مکمل پتہ)
 جہانم رہنما کے ساتھ ساتھ جہانم رہنما کے ساتھ بہتر باہر سے پتہ کیا گیا۔ (مکمل پتہ)
 بند رہی اور جہانم رہنما کے ساتھ ساتھ جہانم رہنما کے ساتھ بہتر باہر سے پتہ کیا گیا۔ (مکمل پتہ)
 کی کو اطلاع دینا، جس میں کھنڈی کے ساتھ ساتھ جہانم رہنما کے ساتھ بہتر باہر سے پتہ کیا گیا۔ (مکمل پتہ)
 یا رہی تاکہ ۱۳۶۱۰ میں ۵/۱۵ گراؤ میں اور پتہ پتہ کی اس میں بند ہوا
 رہی تاکہ FSI پتہ اور جہانم رہنما کے ساتھ ساتھ جہانم رہنما کے ساتھ بہتر باہر سے پتہ کیا گیا۔ (مکمل پتہ)
 دیکھئے۔

۹
 2022
 جہانم رہنما کے ساتھ ساتھ جہانم رہنما کے ساتھ بہتر باہر سے پتہ کیا گیا۔ (مکمل پتہ)

(۴) جہانم رہنما کے ساتھ ساتھ جہانم رہنما کے ساتھ بہتر باہر سے پتہ کیا گیا۔ (مکمل پتہ)
 رضیہ - ۱۴۰۷ جہانم رہنما کے ساتھ ساتھ جہانم رہنما کے ساتھ بہتر باہر سے پتہ کیا گیا۔ (مکمل پتہ)
 اور اس کے ساتھ ساتھ جہانم رہنما کے ساتھ ساتھ جہانم رہنما کے ساتھ بہتر باہر سے پتہ کیا گیا۔ (مکمل پتہ)
 DANSA ۹ جہانم رہنما کے ساتھ ساتھ جہانم رہنما کے ساتھ بہتر باہر سے پتہ کیا گیا۔ (مکمل پتہ)
 جہانم رہنما کے ساتھ ساتھ جہانم رہنما کے ساتھ ساتھ جہانم رہنما کے ساتھ بہتر باہر سے پتہ کیا گیا۔ (مکمل پتہ)
 جہانم رہنما کے ساتھ ساتھ جہانم رہنما کے ساتھ ساتھ جہانم رہنما کے ساتھ بہتر باہر سے پتہ کیا گیا۔ (مکمل پتہ)


 ATTESTED

(2)

- 23

16.24. Procedure in departmental enquiries:-- (1) The following procedure shall be followed in departmental enquiries:--

(i) The police officer accused of misconduct shall be brought before an officer empowered to punish him, or such superior officer as the Superintendent may Direct to conduct the enquiry. That officer shall record and read out to the accused officer a statement summarizing the alleged misconduct in such a way as to give full notice of the cumstances in regard to which evidence is to be recorded. A copy of the statement will also be supplied to the accused officer free of charge.

(ii) If the accused police officer at this stage admits the misconduct alleged against him, the officer conducting the enquiry may proceed forthwith to frame a charge record the accused officer's plea and any statement he may wish to make in extenuation and to record a final order, if it is within his power to do so, or a finding to be forwarded to an officer empowered to decide the case. When the allegations are such as can form the basis of a criminal charge the Superintendent shall decide at this stage, whether the accused shall be tried departmentally first and judicially thereafter.

(iii) If the accused police officer does not admit the misconduct, the officer conducting the enquiry shall proceed to record such evidence, oral and documentary, in proof of the accusation, as is available and necessary to support the charge. Whenever possible, witnesses shall be examined direct, and in the presence of the accused who shall be given opportunity to take notes of their statements and cross-examine them. The officer conducting the enquiry is empowered, however, to bring on to the record the statement of any witness whose presence cannot, in the opinion of such officer, be procured without undue delay and expense or inconvenience, if he considers such statement necessary, and provided that it has been recorded and attested by a police officer superior in rank to the accused officer or by a Magistrate, and is signed by the person making it. This statement shall also be read out to the accused shall be bound to answer any questions which the inquiring officer ma see fit to put to him with a view to elucidating the facts referred to in statements or documents brought on the record as herein provided.

(iv) When the evidence in support of the allegations has been recorded the enquiring officer shall, (a) if he considers that such allegations are not substantiated, either discharge the accused himself, if he is empowered to punish him, or recommended his discharge to the Superintendent, or other officer, who may be so empowered, or (b) proceed to frame a formal charge or charges in writing, explain them to the accused officer and call upon him to answer them.

(v) The accused officer shall be required to state the defence witnesses whom he wishes to call and may be given time, in no case exceeding forty-eight hours, to prepare a list of such witnesses, together with a summary of the facts as to which they will testify. The enquiring officer shall be empowered to to refuse to hear any witnesses whose evidence he considers will be irrelevant or unnecessary in regard to the specific charge framed. He shall record the statements of those defence witnesses whom he decides to admit in the presence of the accused, who shall be allowed to address questions to them, the answers to which shall be recorded; provided that the enquiring officer may cause to be recorded by any other police officer superior in rank to the accused the statement of any such witness whose presence cannot be secured without undue delay or inconvenience, and may bring such statement on to the record. The accused may file documentary evidence and may for this purpose be allowed access to such files and papers, except such as form part of the record

ATTESTED

16.24. Procedure in departmental enquiries:-- (1) The following procedure shall be followed in departmental enquiries:--

(i) The police officer accused of misconduct shall be brought before an officer empowered to punish him, or such superior officer as the Superintendent may Direct to conduct the enquiry. That officer shall record and read out to the accused officer a statement summarizing the alleged misconduct in such a way as to give full notice of the cumstances in regard to which evidence is to be recorded. A copy of the statement will also be supplied to the accused officer free of charge.

(ii) If the accused police officer at this stage admits the misconduct alleged against him, the officer conducting the enquiry may proceed forthwith to frame a charge record the accused officer's plea and any statement he may wish to make in extenuation and to record a final order, if it is within his power to do so, or a finding to be forwarded to an officer empowered to decide the case. When the allegations are such as can form the basis of a criminal charge the Superintendent shall decide at this stage, whether the accused shall be tried departmentally first and judicially thereafter.

(iii) If the accused police officer does not admit the misconduct, the officer conducting the enquiry shall proceed to record such evidence, oral and documentary, in proof of the accusation, as is available and necessary to support the charge. Whenever possible, witnesses shall be examined direct, and in the presence of the accused who shall be given opportunity to take notes of their statements and cross-examine them. The officer conducting the enquiry is empowered, however, to bring on to the record the statement of any witness whose presence cannot, in the opinion of such officer, be procured without undue delay and expense or inconvenience, if he considers such statement necessary, and provided that it has been recorded and attested by a police officer superior in rank to the accused officer or by a Magistrate, and is signed by the person making it. This statement shall also be read out to the accused shall be bound to answer any questions which the inquiring officer ma see fit to put to him with a view to elucidating the facts referred to in statements or documents brought on the record as herein provided.

(iv) When the evidence in support of the allegations has been recorded the enquiring officer shall, (a) if he considers that such allegations are not substantiated, either discharge the accused himself, if he is empowered to punish him, or recommended his discharge to the Superintendent, or other officer, who may be so empowered, or (b) proceed to frame a formal charge or charges in writing, explain them to the accused officer and call upon him to answer them.

(v) The accused officer shall be required to state the defence witnesses whom he wishes to call and may be given time, in no case exceeding forty-eight hours, to prepare a list of such witnesses, together with a summary of the facts as to which they will testify. The enquiring officer shall be empowered to to refuse to hear any witnesses whose evidence he considers will be irrelevant or unnecessary in regard to the specific charge framed. He shall record the statements of those defence witnesses whom he decides to admit in the presence of the accused, who shall be allowed to address questions to them, the answers to which shall be recorded; provided that the enquiring officer may cause to be recorded by any other police officer superior in rank to the accused the statement of any such witness whose presence cannot be secured without undue delay or inconvenience, and may bring such statement on to the record. The accused may file documentary evidence and may for this purpose be allowed access to such files and papers, except such as form part of the record

ATTESTED

of the confidential office of the Superintendent of Police, as the enquiring officer deems fit. The supply of copies of documents to the accused shall be subject to the ordinary rules regarding copying fees.

(vi) At the conclusion of the defence evidence or, if the enquiring officer so directs, at any earlier stage following the framing of a charge, the accused shall be required to state his own answer to the charge. He may be permitted to file a written statement and may be given time, not exceeding one week, for its preparation, but shall be bound to make an oral statement in answer to all questions which the enquiring officer may see fit to put to him, arising out of the charge, the recorded evidence, or his own written statement.

(vii) The enquiring officer shall be proceed to pass orders of acquittal or punishment, if empowered to do so, or to forward the case with his finding and recommendations to an officer having the necessary powers. Whenever the officer passing the orders of punishment proposes to take into consideration the adverse entries on the previous record of the accused police officer, he shall provide reasonable opportunity to the defaulter to defend himself; and a copy or at least a gist of those entries shall be conveyed to the defaulter and he shall be asked to give such explanation as he may deem fit. The explanation furnished by the defaulter shall be taken into account by the officer before passing orders in the case.

(viii) Nothing in the foregoing rule shall debar a Superintendent of Police from making or causing to be made a preliminary investigation into the conduct of a suspected officer. Such an enquiry is not infrequently necessary to ascertain the nature and degree of misconduct which is to be formally enquires into. The suspected police officer may or may not be present at such preliminary enquiry, as ordered by the Superintendent of Police or other gazetted officer initiating the investigation shall form no part of the formal departmental record, but statements therefrom may be brought to the formal record when the witnesses are no longer available in the circumstances detailed in clause (iii) above. All statements recorded during a preliminary investigation should be signed by the person making them and attested by the officer recording them.

Clause (ix) Omitted by Haryana Vide No. G.S.R. 31 dated 21.3.1985

(ix) No order of dismissal or reduction in rank shall be passed by an officer empowered to dismiss a police officer or reduce him in rank until that officer has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in regard to him, provided that this shall not apply--

119
SCN

- (a) where a police officer is dismissed or reduced in rank on the ground or conduct which led to his conviction on a criminal charge; or
- (b) where the officer empowered to dismiss him or reduce him in rank is satisfied that for some reason to be recorded by that officer in writing it is not reasonably practicable to give to that police officer an opportunity of showing cause.

Before an order of dismissal or reduction in rank is passed, the officer to be punished shall be produced before the officer empowered to punish him, and shall be informed of the charges proved against him, and called upon to show-cause why an order of dismissal or reduction in rank should not be passed. Any representation that he may make shall be recorded, shall form part of the record of the case, and shall be taken into consideration by the officer empowered to punish him before the final order is passed:

SCN

ATTESTED

The Khyber Pakhtunkhwa Police Rules, 1975

(With Amendments-2014)

Contents

1. Short title, commencement and application
2. Definitions
3. Grounds of punishment
4. Punishments
- 4.A -
5. Punishment proceedings
6. Procedure of Departmental Inquiry
7. Powers of Inquiry Officer
8. Rules 5 and 6 not to apply in certain cases
9. Procedure of Inquiry against Officers lent to other Government or authority
10. -
11. Appeal
12. Revision (11-A)
13. -
14. Repeal

Khyber Pakhtunkhwa Police Rules, 1975

In exercise of the powers conferred under section 7 of Police Act 1861, the Government of Khyber Pakhtunkhwa, is pleased to make the following Rules, namely:-

1. Short title, commencement and application:-

- (i) These rules may be called the Police Rules, 1975;
- (ii) They shall come into force at once and shall apply to all Police Officers of and below the rank of Deputy Superintendent of Police.

2. Definitions:-

In these rules, unless the context otherwise requires:-

- (i) 'Accused' means a Police Officer against whom action is taken under these rules;
- (ii) 'Authority' means authority competent to award punishment as per Schedule
- (iii) 'Misconduct' means conduct prejudicial to good order of discipline in the Police Force, or contrary to Government Servants (Conduct) Rules or unbecoming of a Police Officer and a gentleman, any commission or omission which violates any of the provisions of law and rules regulating the function and duty of Police Officer to bring or attempt to bring political or other outside influence directly or indirectly to bear on the Government or any

ATTESTED

Government Officer in respect of any matter relating to the appointment, promotion, transfer, punishment, retirement or other conditions of service of a Police Officer.

(iv) 'Punishment' means a punishment which may be imposed under these rules by authority as indicated in Schedule I.

3. **Grounds of punishment.-**

Where a Police Officer, in the opinion of the authority-

- a) Is inefficient or has ceased to be efficient; or
- b) Is guilty of misconduct; or
- c) Is corrupt or may reasonably be considered corrupt because-
 - (i) He is or any of his dependents or any other person through him or on his behalf is, in possession (for which he cannot reasonably account) of pecuniary resources of property disproportionate to his known sources of income; or
 - (ii) He has assumed a style of living beyond his ostensible means; or
 - (iii) He has a persistent reputation of being corrupt; or
- (d) Is engaged Or is reasonably suspected of being engaged in subversive activities, or is reasonably suspected of being associated with others engaged in subversive activities or is guilty of disclosure of official secrets to any unauthorized person, and his retention in service is, therefore, prejudicial to national security, the authority may impose on him one or more punishments.

4. **Punishments.-**

1. The following are the minor and major punishments, namely:---

(a) **Minor punishments-**

- (i) Confinement of Constables and Head Constables for 15 days to Quarter Guards;
 - (ii) Censure;
 - (iii) Forfeiture of approved service up to 2 years;
 - (iv) With holding of promotion up to one year;
 - (v) Stoppage of increment for a period not exceeding 3 years with or without cumulative effect;
- ❖
- (iv) Fine up to Rs15000/- as per schedule-I.

(b) **Major punishments-**

- (i) Reduction in rank/pay;
 - (ii) Compulsory retirement;
 - (iii) Removal from service; and
 - (iv) Dismissal from service.
2. (a) Removal from service does not but dismissal from service does, disqualify for future employment.
- (b) Reversion from an officiating rank is not a punishment.

❖ Amended vide Notification No: 3859/Legal, dated 27/08/2014 issued by IGP, KPK

ATTESTED

- 3. In this rule, removal or dismissal from service does not include the discharge of a person.
- (a) Appointed on probation, during the period of probation, or in accordance with the probation or training rules applicable to him; or
- (b) Appointed, otherwise than under a contract, to hold a temporary appointment on the expiration of the period of appointment; or
- (c) Engaged under a contract, in accordance with the terms of the contract.

4-A.

In case a Police Officer is accused of subversion, corruption or misconduct the Competent Authority may require him to proceed on leave or suspend him.

5.

Punishment proceedings.-

The punishment proceedings will be of two kinds, i.e. (a) Summary Police Proceedings and (b) General Police Proceedings and the following procedure shall be observed when a Police Officer is proceeded against under these rules:---

(1)

When information of misconduct or any act of omission or commission on the part of a Police Officer liable for punishment provided in these rules is received by the authority, the authority, shall examine the information and may conduct or cause to be conducted quick brief inquiry if necessary, for proper evaluation of the information and shall decide whether the misconduct or the act of omission or commission referred to above should be dealt with in a Police Summary Proceedings in the Orderly Room or General Police Proceedings.

(2) In case the authority decides that the misconduct is to be dealt with in Police Summary Proceedings, he shall proceed as under-

- (i) The accused officer liable to be dealt with in the Police Summary Proceedings shall be brought before the authority in an Orderly room.
- (ii) He shall be apprised by the authority orally the nature of the alleged misconduct, etc. The substance of his explanation for the same shall be recorded and if the same is found unsatisfactory, he will be awarded one of the minor punishments mentioned in these rules.
- (iii) The authority conducting the Police Summary Proceedings may, if deemed necessary, adjourn them for a maximum period of 7 days to procure additional information.

(3) If the authority decides that the misconduct or act of omission or commission referred to above should be dealt with in General Police Proceedings he shall proceed as under-

- a) The authority shall determine if in the light of facts of the case or in the interests of justice, a departmental inquiry, through an Inquiry Officer if necessary. If he decides that is not necessary; he shall-
- b) By order in writing inform the accused of the action proposed to be taken in regard to him and the grounds of the action: and

~~TESTED~~

- c) Give him a reasonable opportunity of showing cause against that action: Provided that no such opportunity shall be given where the authority is satisfied that in the interest of security of Pakistan or any part thereof it is not expedient to give such opportunity.
- (4) ~~through an Inquiry Officer.~~ If the authority decides that it is necessary to have departmental inquiry conducted, he shall appoint for this purpose an Inquiry Officer, who is senior in rank to the accused.
- (5) On receipt of the findings of the Inquiry Officer or where no such officer is appointed, on receipt of the explanation of the accused, if any, the authority shall determine whether the charge has been proved or not. In case the charge is proved the authority shall award one or more of major or minor punishments as deemed necessary.

6. Procedure of Departmental Inquiry:-

- i. Where an Inquiry Officer is appointed the authority shall
 - a. Frame a charge and communicate it to the accused together with statement of the allegations explaining the charge and of any other relevant circumstances which are proposed to be taken into consideration;
 - b. Require the accused within 7 days from the day the charge has been communicated to him to put in a written defence and to state at the same time whether he desires to be heard in person;
- ii. The Inquiry Officer shall inquire into the charge and may examine such oral or documentary evidence in support of the charge or in defence of the accused as may be considered necessary and the witnesses against him.
- iii. The Inquiry Officer shall hear the case from day to day and no adjournment shall be given except for reasons to be recorded in writing and where any adjournment is given.
 - a. It shall not be more than a week; and
 - b. The reasons therefore shall be reported forthwith to the authority.
- iv. Where the Inquiry Officer is satisfied that the accused is hampering, or attempting to hamper the progress of the inquiry he shall administer a warning and if thereafter he is satisfied that the accused is acting in disregard of the warning, he shall record a finding to that effect and proceed to complete the departmental inquiry ex parte.
- v. The Inquiry Officer shall within 10 days of the conclusion of the proceedings or such longer period as may be allowed by the authority, submit his findings and grounds thereof to the authority.

ATTESTED

-30

7. Powers of Inquiry Officer:-

- 1) For the purpose of departmental inquiry under these rules, the Inquiry Officer shall have the powers of a Civil Court trying a suit under Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) in respect of the following matters, namely:---
 - (a) Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
 - (b) Requiring the discovery and production of documents;
 - (c) Receiving evidence on affidavits;
 - (d) Issuing commission for the examination of witnesses or documents.
- 2) The proceedings under these rules shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193 and 228 of the Pakistan Penal Code (Act XLV of 1860).

8. Rules 5 and 6 not to apply in certain cases.-

Nothing in rules 5 and 6 shall apply in a case-

- (a) where the accused is dismissed or removed from service or reduced in rank, on the ground of conduct which has led to a sentence of imprisonment; or
- (b) where the authority competent to dismiss or remove a person from service, or to reduce a person in rank, is satisfied that for reasons to be recorded in writing by that authority, it is not reasonably practicable to give the accused an opportunity of showing cause.

9. Procedure of inquiry against officers lent to other Government or Authority.-

- i. Where the services of Police Officer to whom these rules apply are lent to any other Government or to a local or other authority, in this rule referred to as the borrowing authority, the borrowing authority shall have the powers of the authority for the purpose of placing him under suspension or requiring him to proceed on leave and of initiating proceedings against him under these rules.
 - ii. Provided that the borrowing authority shall forthwith inform the authority which has lent his services, hereinafter in this rule referred to as the lending authority, of the circumstances leading to the order of his suspension or the commencement of the proceedings, as the case may be.
 - iii. If in the light of the findings in the proceedings taken against the Police Officer in terms of sub-rule (1) the borrowing authority is of opinion that any punishment should be imposed on him, it shall transmit to the lending authority the record of the proceedings and thereupon the lending authority shall take action as prescribed in these rules.
10. No party to any proceedings under the rules before the authority or Inquiry Officer shall be represented by an Advocate.

ATTESTED

-31

11. Appeal:-

For rule 11, the following shall be substituted, namely:

❖ "11. **Appeal---**(1) An accused, who has been awarded any penalty under these rules except the penalty of confinement of constable and head constable for fifteen days to quarter guards, may, within thirty days from the date of communication of the order, prefer an appeal to the Appellate Authority as provided in sub-rule (2).

(2) The appeal, against the orders of the officer, specified in Schedule-I, who passes it shall lie to the Appellate Authority as may be specified in the table below:

S.No	Punishing Authorities	Appellate/Reviewing Authorities
1.	Provincial Police Officer	Provincial Police Officer (Review)
2.	Regional Police Officer/ Deputy Inspector General of Police/ Capital City Police Officer/ Additional Inspector General of Police.	Provincial Police Officer.
3.	District Police Officer/ Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police.	Regional Police Officer/ Deputy Inspector General of Police/ Capital City Police Officer/ Additional Inspector General of Police.
4.	Assistant Superintendent of Police/ Deputy Superintendent of Police.	District Police Officer/ Senior Superintendent of Police/ Senior Superintendent of Police Operations.

Provided that where the order has been passed by the Provincial Police Officer, the delinquent officer/official, may within a period of thirty days submit review Petition directly to the Provincial Police Officer.

(3) There shall be only one appeal from the original order and the order of the Appellate Authority, in appeal, shall be final.

(4) The Appellate Authority or Review Authority, as the case may be, may call for the record of the case and comments on the points raised in the appeal or review, as the case may be, from the concerned officer, and on consideration of the appeal or the review petition, as the case may be, by an order in writing-

- (a) uphold the order of penalty and reject the appeal or review petition; or
- (b) set aside the orders and exonerate the accused; or

❖ Amended vide Notification No: 3859/Legal, dated 27/08/2014 issued by IGP, KPK

ATTESTED

- (c) modify the orders and reduce or enhance the penalty; or
- (d) set aside the order of penalty and remand the case to the authority, where it is satisfied that the proceedings by the authority or the inquiry officer or inquiry committee, as the case may be, have not been conducted in accordance with the provisions of these rules, or the facts and merits of the case have been ignored, with the directions to either hold a de novo inquiry or to rectify the procedural lapses or irregularities in the proceedings:

Provided that where the Appellate Authority or Review Authority, as the case may be, proposes to enhance the penalty, it shall by an order in writing-

- (a) inform the accused of the action proposed to be taken against him and the grounds of such action; and
- (b) give him a reasonable opportunity to show cause against the action and afford him an opportunity of personal hearing.

(5) An appeal or review preferred under this rule, shall be made in the form of a petition, in writing, and shall set forth concisely the grounds of objection to the impugned order in a proper and temperate language".

12. After rule 11, the following new rule shall be inserted, namely:

❖ "**11-A Revision**"..... (1) The Inspector General, Additional Inspector General, a Deputy Inspector General of Police or a Senior Superintendant of Police may call for the records of awards made by their subordinates and confirm, enhance, modify or annul the same, or make further investigation or direct such to be made before passing orders.

(2) If an award of dismissal is annulled, the officer annulling it shall state whether it is to be regarded as suspension followed by re-instatement, or not. The order should also state whether service prior to dismissal should count for pension or not.

(3) In all cases in which officers propose to enhance an award the officer shall, before passing final orders, give the defaulter concerned an opportunity of showing cause, either personally or in writing, why his punishment should not be enhanced.

(4) The revision petition shall lie or taken cognizance by the authorities under sub rule-(1) within thirty days of the order passed on original appeal.

Provided that the Provincial Police Officer, while acting as revisional authority, in certain cases, may constitute a Revision Board for the speedy disposal of revision petitions, before passing any orders." And

ATTESTED

13.

No order passed under these rules shall be subject to review by any Court/Tribunal.

14. Repeal.-

Any Disciplinary Rules applicable to Police Officers to whom these rules apply are hereby repealed but the repeal thereof shall not affect any action taken or anything done or suffered there under.

NASIR KHAN DURRANI (PSP)
Inspector General of Police,
Provincial Police Officer,
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.

~~ATTESTED~~

❖ SCHEDULE-I

POWER OF PUNISHMENT TABLE							
S #	DEPARTMENTAL PUNISHMENTS	AUTHORITIES COMPETENT TO AWARD PUNISHMENT TO:					
		Deputy Superintendent of Police/Deputy Superintendent of Police (Legal)	Inspector/Inspector (Legal)	Sub Inspector/ Sub Inspector Legal	Assistant Sub Inspector	Head Constable	Constable
1.	A-Major Punishments:						
	(i) Dismissal, removal from service, compulsory retirement.	Provincial Police Officer	DPO/SSP	DPO/SSP	DPO/SSP/SP	DPO/SSP/SP	DPO/SSP/SP
	(ii) Reduction from substantive rank to lower rank or from higher stage to lower stage in the same time scale of pay.	Provincial Police Officer	DPO/SSP	DPO/SSP/SP	DPO/SSP/SP	DPO/SSP/SP	DPO/SSP/SP
2.	B-Minor Punishments: Withholding of promotion for one year or less.	PPO/Addl: IGP/CCPO/RPO/DIG	DPO/SSP/SP	DPO/SSP/SP	DPO/SSP/SP/ASP/DSP	DPO/SSP/SP/ASP/DSP	DPO/SSP/SP/ASP/DSP
3.	(i) Fine up to rupees Fifteen thousand (15000/-)	Provincial Police Officer	---	---	---	---	---
	(ii) Fine up to rupees Ten thousand (10000/-)	Addl: IGP/CCPO	---	---	---	---	---
	(iii) Fine up to rupees Ten thousand (10000/-)	RPO/DIG	---	---	---	---	---
	(iv) Fine up to rupees Five thousand (5000/-)	---	DPO/SSP/SP	DPO/SSP/SP	DPO/SSP/SP ASP/DSP	DPO/SSP/SP ASP/DSP	DPO/SSP/SP ASP/DSP
	(v) Fine up to rupees one thousand (1000/-)	---	---	---	---	---	---
4.	Stoppage of increments for a period not exceeding three (3) years with or without cumulative effect.	PPO/Addl: IGP/CCPO/RPO/DIG	DPO/SSP/SP	DPO/SSP/SP	DPO/SSP/SP/ASP/DSP	DPO/SSP/SP/ASP/DSP	DPO/SSP/SP/ASP/DSP
5.	Censure	PPO/Addl: IGP/CCPO/RPO/DIG	DPO/SSP/SP	DPO/SSP/SP	DPO/SSP/SP/ASP/DSP	DPO/SSP/SP/ASP/DSP	DPO/SSP/SP/ASP/DSP
6.	Forfeiture of approved service up to two (2) years	PPO/Addl: IGP/CCPO/RPO/DIG	DPO/SSP/SP	DPO/SSP/SP	DPO/SSP/SP/ASP/DSP	DPO/SSP/SP/ASP/DSP	DPO/SSP/SP/ASP/DSP
7.	Confinement to quarters guard up to fifteen (15) days of Constables and Head constables.	---	---	---	---	DPO/SSP/SP/ASP/DSP	DPO/SSP/SP/ASP/DSP


ATTACHED

NASIR KHAN DURRANI (PSP)
Inspector General of Police,
Provincial Police Officer,
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.

❖ Amended vide Notification No: 3859/Legal, dated 27/08/2014 issued by IGP, KPK

34

بعد الت رسیدہ نوبتوں پر



2022ء منجانب 55

بنام جولیہ

موزخہ
مقدمہ
دعویٰ
جرم

باعث تحریر آئندہ

مقدمہ مندرجہ عنوان بالا میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جواب دہی دیکر کارروائی متعلقہ
آن مقام کے لئے حالیہ طور پر کیلئے حالیہ طور پر مندرجہ اسباب اور

مقرر کر کے اقرار کیا جاتا ہے۔ کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کارروائی کا کامل اختیار ہوگا۔ نیز
وکیل صاحب کو راضی نامہ کرنے و تقرر رسالت ہ فیصلہ برحلف دیئے جواب دہی اور اقبال دعویٰ اور
بسورت ڈگری کرنے اجراء اور وصولی چیک و روپیہ ارضی دعویٰ اور درخواست ہر قسم کی تصدیق
زرائیں پر دستخط کرانے کا اختیار ہوگا۔ نیز صورت عدم پیروی یا ڈگری یکطرفہ یا اپیل کی براندگی اور منسوخی
نیز دائر کرنے اپیل نگرانی و نظر ثانی و پیروی کرنے کا اختیار ہوگا۔ از بصورت ضرورت مقدمہ مذکور
کے کل یا جزوی کارروائی کے واسطے اور وکیل یا مختار قانونی کو اپنے ہمراہ یا اپنے بجائے تقرر کا اختیار
ہوگا۔ اور صاحب مقرر شدہ کو بھی وہی جملہ مذکورہ اختیارات حاصل ہوں گے اور اس کا ساختہ
پرواختہ منظور قبول ہوگا۔ دوران مقدمہ میں جو خرچہ ہر جانہ التوائے مقدمہ کے سبب سے وہوگا۔
کوئی تاریخ پیشی مقام دورہ پر ہو یا حد سے باہر ہو تو وکیل صاحب پابند ہوں گے۔ کہ پیروی
مذکور کریں۔ لہذا وکالت نامہ لکھ دیا کہ سند ہے۔

المرقوم 20
بسی 20

واہ العب
بمقام

کے لئے منظور ہے۔

Handwritten signature